



رسول اللہ ﷺ جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جائے تھے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جائے تھے

[صحیح] [اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے - اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے - اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے - اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے - اسے امام احمد نے روایت کیا ہے]

نبی ﷺ جماع کرنے کے بعد پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جایا کرتے تھے، نہ وضو کرتے اور نہ ہی غسل فرماتے، یہاں تک کہ اپنی شرم گاہ کو بھی نہ دھوتے تھے؛ کیونکہ حدیث میں "ماء" کا لفظ نکرہ ہے اور سیاق نفی میں استعمال ہوا ہے، اس لیے پانی کے ہر قسم کے استعمال کو عام ہے دوسرا احتمال: یہ ہے کہ آپ ﷺ غسل کے لیے پانی کو نہ چھوتے تھے نہ کہ وضوء کے لیے یہ مفہوم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث سے موافقت رکھتا ہے جن میں صراحت ہے ساتھ اس بات کا بیان ہے کہ آپ ﷺ بعد از جماع سونے کے لیے اور کھانے، پینے اور دوبارہ جماع کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور وضو کرتے تھے ان میں سے ایک وہ حدیث ہے جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول! کیا تم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں بشرطیکہ وہ وضوء کر لے" متفق علیہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جنابتی شخص کو رخصت دی کہ جب اس کا کھانا پینے یا سونے کا ارادہ ہو تو نماز کے لئے کیا جائے والا وضو کر لے اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے تاہم اس تاویل کو حدیث کا عموم مسترد کرتا ہے ہرگز یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ: نبی ﷺ جواز کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات بالکل بھی پانی کو نہ چھوتے تھے کیونکہ آپ ﷺ اگر ہمیشہ ایسا کیا کرتے تو اس سے اس کے فرض ہونے کا وہم ہوتا لہذا آپ ﷺ نے امت کے لیے آسانی اور سہولت پیدا کرنے کی غرض سے بعض اوقات پانی کے استعمال کو چھوڑ دیا

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10543>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

